

やさしい日本語

英語

【四日市市】

新型コロナワイルスワクチン接種の注射について

◆10月1日(金曜日)12時30分から 集団接種の予約ができます

*日程や会場は市のホームページで確認してください

【予約の方法】

WEB

ホームページから 予約できます。



TEL

電話で 予約 できます

059-327-5990

月曜日～金曜日 8:30～19:00

土曜日・日曜日・祝日 8:30～17:15

★電話がかかりにくい時があります。少し待つてから、かけ直してください。

★通訳があります(ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語、ベトナム語、韓国語)

【Yokkaichi】

About the COVID-19 vaccination

◆The reservations for mass vaccination will be started on Friday, October 1 from 12:30 PM.

* Please refer to the city website for dates and locals.

【Reservation method】

WEB

You can make a reservation through our website. Here for more details



TEL

You can make a reservation by phone
059-327-5990

Monday to Friday 8:30 ~ 19:00

Weekends and holidays 8:30 ~ 17:15

★Your call might not get through. Please try again after a while.

★Interpreters are available (Portuguese, Spanish, Chinese, English, Vietnamese and Korean)

中国語

ポルトガル語

【四日市市】 新冠疫苗接种事宜

◆10月1日(周五)12:30以后，可以预约团结接种。

*具体时间和地点，请确认本市的网站。

【预约方法】

WEB

网上预约。

详情请确认二维码



TEL

电话预约

059-327-5990

周一～周日 8:30～19:00

周六・周日・祝日 8:30～17:15

★预约电话有可能忙线，请稍后再重拨。

★有翻译（葡萄牙语，西班牙语，汉语，英语，越南语，韩语）

【Yokkaichi】

Sobre a vacina contra o coronavírus

◆As reservas podem ser feitas a partir do dia 1 de outubro (sexta-feira) a partir do meio-dia e meio

*Confira a programação e o local no site da cidade

【Como fazer a reserva】

WEB

Pela internet, mais detalhes aqui



TEL

Por telefone

059-327-5990

Segunda a sexta das 8h30 às 19h

Sábados, domingos e feriados das 8:30 às 17:15

★Pode ser que a chamada não entre, espere um pouco e tente novamente

★Há intérpretes (português, espanhol, chinês, inglês, vietnamita e coreano)

スペイン語

【Yokkaichi】

Sobre la vacuna contra el coronavirus

◆ Se podrá hacer reservaciones a partir del **mediodía y medio del viernes 1 de octubre**

* Verifique la programación y el local en el site de la ciudad

[Forma de hacer la reserva]

WEB

Por internet,
más detalles aquí



TEL

Por teléfono
059-327-5990

De lunes a viernes de 8:30 a 19:00
Sábados, domingos y feriados de 8:30 a 17:15
★ Hay posibilidad de que la llamada no entre, espere un poco y vuelva a intentar
★ Hay traductor (portugués, español, chino, inglés, vietnamita y coreano)

WEB

Qua trang Web của
thành phố.
Chi tiết xem tại đây



TEL

Qua tổng đài hỗ trợ của thành phố
059-327-5990

Từ thứ hai đến thứ sáu 8h30 đến 19h
Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ từ 8h30 đến 17h15
★ Vì có thể có rất nhiều cuộc gọi đến nên sẽ mất thời gian để kết nối, hãy tắt máy và đợi thêm một vài phút rồi gọi lại.
★ Có phiên dịch tiếng Bồ đào nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Hàn

フィリピン語

【Yokkaichi】 Tungkol pagbabakuna ng coronavirus vaccine

◆ Maaari magpareserba ng bakuna simula ng
12:30p.m. ng Friday, October 1

* Mangyaring kumpirmihin/tingnan ang homepage ng para sa mga
petsa at vaccine venue.

[Paraan ng pagpapareserba]

WEB

Maaari kang
magpareserba
mula sa
homepage WEB.
Para sa malawak
na impormasyon.



TEL

Maaari kang magpareserba sa pamamagitan
ng pagtawag sa telefono
059-327-5990

Lunes-Biyernes 8:30-19:00
Sabado, Linggo, at National Holidays 8:30-17:15
★ May pagkakataon na mahirap makontak ang
telepono, mangyaring tumawag pagkalipas ng
ilang sandali
★ May mga Interpreters na maaring
makapaglingkod (Portuguese, Spanish, Chinese,
English, Vietnamese, Korean)

ネパール語

【ヨコカイチ】 नगरपालिका नयाँ कोरोनाभाइरस बिरुद्धको खोप लगाउने बारेमा ◆ कातिक १ गते (शुक्रवार) १२:३०

बजेबाट सामुहिक खोपको लागी बुकिङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ ।

* कृपया मिति र केन्द्रहरूको लागी नगरपालिकाको वेबसाइटमा रुजु गर्नुहोस् ।

[बुकिङ्ग माध्याम]

WEB

वेबसाइटबाट बुकिङ्ग
गर्न सक्नुहुन्छ ।
अतिरिक्त जानकारीको
लागी यहाँ सम्पर्क
गर्नुहोस् ।



TEL

फोनबाट बुकिङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ ।
059-327-5990

सोमवार-शुक्रवार ८:३०-१९:००
शनिवार · आइतबार · सार्वजनिक बिदा ८:३०-१७:१५
★ यो फोन व्यस्त हुनसक्छ । कृपया केहि समय पछि फेरि
सम्पर्क गर्नुहोला ।
★ उपलब्ध दोभाषेहरू (पोर्चुगिज, स्पेनिश, चिनियाँ, अंग्रेजी,
भियतनामी, कोरियाली)